

U MICROFINANCE BANK LIMITED

جدول اخراجات - برانچ بینکاری

01 جولائی 2025 تا 31 دسمبر 2025

1- فنانسنگ پراڈکٹس

برائے کرم فنانسنگ پراڈکٹس کے پرائنٹ ریٹس برانچ میں اور بینک کی ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیں

فنانسنگ پروسیجرس فیس اور چارجز

گولڈ بینک اور کیش بینک سکیورٹی پراڈکٹس کیلئے پروسیجرس فیس	فنانسنگ کی رقم کا 3.25 فیصد یا 30,000 جو بھی کم ہو
توافق اور سولر فنانسنگ پراڈکٹس کیلئے پروسیجرس فیس	فنانسنگ کی رقم کا 5.3 فیصد یا 30,000 جو بھی کم ہو
دیگر پراڈکٹس کیلئے پروسیجرس فیس	فنانسنگ کی رقم کا 4.5 فیصد یا 30,000 جو بھی کم ہو
دیر سے ادائیگی کرنے پر مراعات فنانسنگ کی پراڈکٹس کی چیرٹی	100 روپے فی لیٹ قسط
دیر سے ادائیگی کرنے پر ڈیفینٹنگ مشارکہ فنانسنگ کی پراڈکٹس کی چیرٹی	500 روپے فی لیٹ قسط
دیر سے ادائیگی کرنے پر مسلم کی پراڈکٹس کی چیرٹی	کوئی نہیں
قبل از وقت جزوی مشارکہ یونٹ کی خریداری پر منافع وصول کیا جائے گا	پہلا سال: کل جزوی رقم کا 5 فیصد
	دوسرا سال: کل جزوی رقم کا 4 فیصد
	تیسرا سال اور اس کے بعد: کل جزوی رقم کا 3 فیصد
تصفیہ کے بعد کو لیٹرل پیڈ لنگ	فنانسنگ اختتام ہونے کے تین دن تک کو لیٹرل پیڈ لنگ کے کوئی چارج نہیں ہے تاہم اسکے بعد 1,000 روپے دس دن تک، اور زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے
کو لیٹرل نیلامی چارجز	نیلامی کی قیمت کا 0.25% یا 3,000 روپے جو بھی زیادہ ہو۔
پراسیجرس فیس نئی اور دوبارہ فنانسنگ کیلئے لاگو ہوں گی۔	

2- ریمیننس سے متعلق چارجز

آمدنی کا سرٹیفکیٹ	300 روپے
آن لائن ٹرانزیکشن	
انٹر برانچ کیش ڈپازٹ	مفت
انٹر برانچ کیش وڈرال	مفت
انٹر برانچ اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ فنڈ ٹرانسفر	مفت
RTGS چارجز اور اوقات کار	RTGS چارجز (سوموار تا جمعہ)
	220 روپے بمعہ (9 بجے صبح تا 12 بجے رات)
	330 روپے بمعہ (2 بجے دوپہر تا 3:30 بجے دوپہر) (رات 12 بجے تا 2 بجے صبح)
	550 روپے بمعہ
RTGS چارجز (سوموار تا جمعہ)	1,000,000 روپے اور اس سے زائد
	30 روپے بمعہ (9 بجے صبح تا 3:30 بجے دوپہر)
	100,000 روپے سے 999,999 تک
پیمنٹ آڈر (اکاؤنٹ ہولڈر کے لئے)	
پیمنٹ کا اجراء، دوبارہ پیمنٹ اور منسوخی	فی عدد 500 روپے
پیمنٹ کا اجراء کیش کی مد میں	500 روپے فی آلہ

پیمنٹ آڈر (واک ان کسٹمر کے لیے)	
پیمنٹ کا اجراء، دوبارہ پیمنٹ اور منسوخی	فی عدد 750 روپے فی آلہ
(CDR) کال ڈیپازٹ رسید	
کال ڈیپازٹ کا اجراء	مفت
کال ڈیپازٹ رسید کی تفتیش اور دوبارہ تصدیق	150 روپے فی عدد

3- کلیرنگ اور وصولی	
نارمل اور انٹرسٹی آؤٹ ورڈ کلرنگ چارجز	300 روپے
نارمل کلرنگ ان ورڈ ریٹرن چارجز	500 روپے
سیم ڈے آؤٹ ورڈ کلرنگ چارجز	800 روپے
نارمل اور سیم ڈے آؤٹ ورڈ کلرنگ ریٹرن چارجز	350 روپے
OBC	
جمع کرانے کے لیے بیرونی بل (ریلائنیشن)	250 روپے DD چارجز پیش کردہ پراجیکٹ کے لیے
OBC چیک کے دوبارہ چارجز	فی عدد 200 روپے

4- لاکرز	
سیکورٹی ڈپازٹ، کی ڈپازٹ اور کی لاکرز کی فیس پیشگی وصول کی جائے گی۔	
سالانہ کرایہ	کم سے کم
3000 روپے	درمیانہ
5000 روپے	زیادہ سے زیادہ
7000 روپے	زیادہ سے زیادہ
سیکورٹی ڈپازٹ	جو بھی سائز ہو گا اسکے ایک سال کے کرایہ کے برابر
کی ڈپازٹ	2000 روپے تمام سائز کیلئے
توڑنے کے چارجز	اصل خرچہ
دیر سے ادائیگی کرنے پر چیرٹی	300 روپے لیٹ ہونے کے ایک ماہ کے بعد
نوٹ: لاکرز کی بازیابی کے بعد سیکورٹی ڈپازٹ اور کی ڈپازٹ کی رقم واپس کر دی جائے گی مزید یہ کہ یوبینک سٹاف سیکورٹی اور کی ڈپازٹ فیس سے مستثنیٰ ہیں۔	

5- اکاؤنٹ سے متعلق چارجز	
چیک بک چارجز	25 روپے فی چیک
مرتب شدہ (کسٹمائزڈ) چیک بک چارجز	35 روپے فی چیک
ایڈہاک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ	35 روپے
اکاؤنٹ بیلنس سرٹیفکیٹ کا اجراء	250 روپے
اسٹاپ پیمنٹ (یعنی رقم کی ادائیگی رکوا دینے کے چارجز)	400 روپے فی استدعا اور 500 روپے سریز کیلئے
مستقل ہدایات	(فی استدعا) 100 روپے + FED
بیلنس کنفرمیشن تھرڈ پارٹی کیلئے	300 روپے
اکاؤنٹ بحالی فیس ☆	20 روپے فی ماہ
(کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر کیلئے)	(فیس معاف ہوگی اگر کسٹمر کم از کم 5,000 روپے فی ماہ برقرار رکھے)
ہولڈ میل	250 روپے
اداشدہ چیک کی فوٹوکاپی	200 روپے
اکاؤنٹ بند کرانے کے چارجز	کوئی نہیں

☆ آسان اور ریگولر سیونگ اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔

6- فوری سرمو

یو اسلامک نور اکاؤنٹ

درج ذیل ویلویو ایڈڈ مفت خدمات ان صارفین کے لیے دستیاب ہوں گی جو 10,000 روپے اور اس سے اوپر ماہانہ اوسط بیلنس (MAB) برقرار رکھتے ہیں۔

پہلی چیک بک مفت

پہلا ڈیبٹ کارڈ (پے پاک) مفت

پے آرڈرز مفت

چھوٹے لاکر کی سالانہ فیس پر 50% ڈسکاؤنٹ (جہاں دستیاب ہوں)

7- ڈیبٹ کارڈ

ڈپازٹ اور فنانسنگ کسٹمر کے لیے

پے پاک ڈیبٹ کارڈ کا اجراء، سالانہ (دوبارہ سالانہ فیس) اور کارڈ کی تبدیلی	کلاسک	کلاسک +	کلاسک ++
	50 ہزار تک کی رقم نکوانا:	100 ہزار تک کی رقم نکوانا:	250 ہزار تک کی رقم نکوانا:
	1100 روپے فی کارڈ + FED	1200 روپے فی کارڈ + FED	1350 روپے فی کارڈ + FED
یونین پے ڈیبٹ کارڈ کا اجراء، سالانہ (دوبارہ سالانہ فیس) اور کارڈ کی تبدیلی	کلاسک	کلاسک +	کلاسک ++
	50 ہزار تک کی رقم نکوانا:	100 ہزار تک کی رقم نکوانا:	250 ہزار تک کی رقم نکوانا:
	1100 روپے فی کارڈ + FED	1200 روپے فی کارڈ + FED	1350 روپے فی کارڈ + FED
ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ کا اجراء، سالانہ (دوبارہ سالانہ فیس) اور کارڈ کی تبدیلی	1500 روپے کلاسک کے لئے + FED		
رقم نکوانا (MNET اور 1 لنک سے)	23.44 روپے		
یونین کے اے ٹی ایم سے رقم نکوانا	مفت		
بیلنس انکوئری (صرف ایم این ای ٹی نیٹ ورک کیلئے)	3.13 روپے		
بیلنس انکوئری (یونین کے اے ٹی ایم سے)	مفت		

IBFT چارز

چار جز (روپے)	ماہانہ رقم کی حد	(آئی بی ایف ٹی) سے یوبنک اے ٹی ایم اور انٹرنیٹ اور موبائل بنکنگ (برانچ بنکنگ اکاؤنٹس)
0	25,000 تک مہینہ	
0.1 فیصد ٹرانزیکشن کے رقم یا 200 روپے جو بھی کم ہو فی ٹرانزیکشن	ایک مہینہ میں 25,000 روپے سے زائد پر	
8- متفرق چار جز		
200 روپے	اداشدہ چیک کی فوٹوکاپی	
200 روپے	کسٹمر کی ہدایات کے مطابق کورنیر اور میلنگ چار جز	
200 روپے فی دستاویز جو کہ 6 ماہ سے پرانا ہو	دستاویزات کی بازیافتگی	
جیسا کہ کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پایا	ادارہ جاتی تنخواہ کی تقسیم	
قانونی رائے اور تخمینہ کار کے چار جز		
12,000 روپے یا تخمینہ کار کو براہ راست ادائیگی	مکان آسان ڈمنشنگ مشار کہ کے لئے قانونی رائے اور تصدیقی کاغذات	
اصل خرچ	ڈمنشنگ مشار کہ پراڈکٹس کے دستاویزات کے چار جز	
5000 روپے تک یا پینل تخمینہ کار کو براہ راست ادائیگی	ڈمنشنگ مشار کہ فنانسنگ کے ویلیوشن کے چار جز	
اصل خرچ	اثاثہ واپس لینے (ری پزیشن) کے چار جز	
A-نوٹ		
1. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لاگو کردہ FED اور دیگر ٹیکسز اوپر دیئے گئے چار جز کے علاوہ ہوں گے۔		
2-FED کا اطلاق مذکورہ بالا تمام سروسز پر ہو گا جو منافع کی آمدنی کی مالی اعانت پر مبنی نہیں ہیں۔		
3- سرکاری، نیم سرکاری، طالب علموں اور بیوہوں کی پنشن کیلئے اور یوبنک کے عملے کے لئے بنائے گئے اکاؤنٹ باقاعدہ بینک چار جز سے مستثنیٰ ہوں گے		
4- محفوظ فنانسنگ کے حوالے سے قانونی دستاویزات کے چار جز اصل میں صارفین سے وصول کیئے جائیں گے۔		
5- ود ہولڈنگ ٹیکس موجودہ شرح جات کے تابع ہے جو وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتی ہے۔		
6- شریعہ ایڈوائیز اور بینک کی مجاز اتھارٹی کسی بھی یا تمام چار جز کو معاف کر سکتی ہے۔		
7- کو لیٹرل آکشن چار جز درخواست دہندہ کی طرف سے براہ راست بینک کے پینل کے منظور شدہ تخمینہ کار کو ادا کیئے جائیں گے جو ویلیوٹر کے ساتھ بینک کے معاہدہ کے مطابق ہوں گے۔		
8- بقایا رقم کو اصل میں کسٹمر کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے سے پہلے کو لیٹرل ویلیوشن چار جز کو کو لیٹرل کی سیلز سے کاٹ لیا جائے گا۔		
9- کوئی بھی چار جز جو اس شیڈول کے تحت شامل نہیں ہیں کسٹمر کے ساتھ معاہدہ کے مطابق کیس ٹو کیس الگ سے وصول کیئے جائیں گے۔		